



### کووڈ-19 کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں مورخہ 17 اپریل سے مؤثر ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (16 اپریل 2020) – کووڈ-19 سے مؤثر طور پر نمٹنے اور برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے کمیونٹی کی خدمات کو محفوظ بنانے کے لیے بس سروس میں بروز جمعہ، مورخہ 17 اپریل سے شروع کرتے ہوئے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں لائی جائیں گی۔

برامپٹن کی نگہداشت صحت کی سہولت گاہوں اور ملازمتوں تک رسائی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اور برامپٹن کی دیگر ٹرانزٹ سروسز تک رسائی اور ان کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے، درج ذیل روٹس کو پیر تا جمعہ کے لیے واپس بحال کر دیا جائے گا۔ اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ ان سروسز کو بہتر طور پر بحال کرنے کی بہترین کوششیں کی جائیں گی

#### روٹ 8 سنٹر

برامیلا سٹی سنٹر، پیل میموریل سنٹر اور برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل تک رسائی کے لیے

- ہر 50 منٹ کے بعد
- برامیلا ٹرمینل سے پہلا ٹرپ صبح 5 بجے روانہ ہو گا
- برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے پہلا ٹرپ صبح 5:50 پر روانہ ہو گا

#### روٹ 9 ووڈین

ماؤنٹ پلیزنٹ گو، برامیلا ٹرمینل اور ایسٹ اینڈ کی جانب ملازمت کے مقامات تک رسائی کے لیے

- ہر 60 منٹ کے بعد
- ماؤنٹ پلیزنٹ گو سے پہلا ایسٹ ہاؤنڈ ٹرپ صبح 5 بجے روانہ ہو گا
- ولیمز پارک اور ایڈویک ڈرائیو سے پہلا ویسٹ ہاؤنڈ ٹرپ صبح 5:57 پر روانہ ہو گا

#### روٹ 52 میک مرچی (McMurchy)

ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل اور برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کی جانب رسائی کے لیے

- ہر 50 منٹ کے بعد
- برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے پہلا نارٹھ ہاؤنڈ ٹرپ صبح 5 بجے روانہ ہو گا
- ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل سے پہلا ساؤتھ ہاؤنڈ ٹرپ صبح 5:20 پر روانہ ہو گا

موجودہ طور پر چلنے والے روٹس اور ان کے شیڈول کی فہرست دیکھنے کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ٹرانزٹ کے کچھ زیادہ مصروف روٹس پر اضافی وسائل کو منتقل کیا گیا ہے تاکہ ہم مسافروں کے درمیان مناسب جسمانی فاصلہ بندی کو ممکن بنانے کے لیے بسوں میں مسافروں کو آدھی گنجائش تک بٹھانے کا عمل جاری رکھ سکیں۔ ہمارا مقصد اپنے وسائل کے مطابق زیادہ سے زیادہ سروس کو ممکن بنانا ہے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ شہر کے تمام علاقوں کو عوامی نقل و حمل تک معقول رسائی حاصل ہو۔

کرونا وائرس (کووڈ-19) کے لیے حفاظتی اقدامات



صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) پر جائیں یا Twitter پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)